



Press Release

October 30, 2015

For immediate release

SECP takes action against the defaulter companies

ISLAMABAD, October 30: To provide relief to the minority shareholders, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has directed the defaulter companies to comply with the required regulations.

Earlier on September 1, 2015, SECP issued Directions under Section 100 of the Securities Act, 2015 to 77 companies on defaulter segments of Karachi Stock Exchange (KSE), Lahore Stock Exchange (LSE) and Islamabad Stock Exchange (LSE), to take immediate steps to undo the default of aforesaid listing regulations.

As a result of the Directions, 9 companies reported their compliance with the said directions of the Commission, and 6 of these have been restored on the normal counter(s). The restoration of trading of shares of companies on the stock market will give the investors an opportunity to buy or sell their investments and it will also result in the improved image of the company, apart from giving it access to funds from the capital market.

Meanwhile, in case of unsatisfactory responses from defaulter companies, SECP has issued Show Cause Notices to 38 companies under Section 160 of the Securities Act, 2015 requiring them to explain their non-compliance within 14 days failing which penalties under Section 159(5) (c) (i) and sub-section (8) of the Securities Act, 2015 will be imposed, while SECP taking lenient view in 14 cases has extended compliance timeline while considering Company requests. 19 companies have contested their defaults reported on the LSE, and the matter has been taken up with the Exchange, for its amicable resolution.

The defaults committed by the aforesaid companies included their failure to hold two consecutive annual general meetings (the "AGM"), failure to pay outstanding annual listing fee as well as penalty imposed, or any other dues, payable to stock exchanges or their failure to join Central Depository System (CDS).

Media and Corporate Communications Department

Securities and Exchange Commission of Pakistan

NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad – 44000 Pakistan

Direct # +92 51 9214005 Fax # +92 51 9206515 Cell: +92 300-9882237

Email: sajid.gondal@secp.gov.pk

www.secp.gov.pk

سکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان

پریس ریلیز

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۵

ایس ای سی پی کی نابدندہ کمپنیوں کے خلاف کارروائی

اسلام آباد، ۳۰ اکتوبر : سکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے نابدندہ کمپنیوں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ضابطوں کی تعمیل کریں تا کہ اقلیتی حصہ داروں کی مدد کی جا سکے۔

اس سے قبل یکم ستمبر ۲۰۱۵ کو ایس ای سی پی نے سکیورٹیز کے قانون مجریہ ۲۰۱۵ کی دفعہ ۱۰۰ کے تحت کراچی سٹاک ایکسچینج (KSE)، لاہور سٹاک ایکسچینج (LSE) اور اسلام آباد سٹاک ایکسچینج (ISE) کی ۷۷ نابدندہ کمپنیوں کو یہ ہدایات جاری کی تھیں کہ وہ مندرجہ بالا فہرستی ضوابط کی نابدندگی کو سلجھائیں۔

ان ہدایات کے نتیجے میں ۹ کمپنیوں نے مذکورہ ہدایات کی تعمیل کی رپورٹ پیش کر دی ہے اور ان میں سے ۶ کو عام کاؤنٹر پر بحال کر دیا گیا ہے۔ سٹاک منڈی کی حصص کی تجارت کی کمپنیوں کی بحالی سے سرمایہ کاروں کو اپنی سرمایہ کاری کی خرید و فروخت کا موقع ملے گا اور اس سے کمپنی کی ساکھ میں بھی بہتری آئے گی علاوہ ازیں اس کو سرمایہ منڈی سے فنڈز کی رسائی دی جائے گی۔

اس اثنا میں، نابدندہ کمپنیوں کے غیر تسلی بخش رد عمل پر، ایس ای سی پی نے سکیورٹیز کے قانون مجریہ ۲۰۱۵ کی دفعہ ۱۶۰ کے تحت ۳۸ کمپنیوں کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے جس کے مطابق انہیں اپنی عدم تعمیل ۱۴ دنوں کے اندر کی وضاحت کرنا ہوگی جس میں ناکامی پر سکیورٹیز کے قانون مجریہ ۲۰۱۵ کی دفعہ ۱۵۹ (۵) (c) (i) کی ذیلی دفعہ (۸) کے تحت جرمانے عائد کئے جائیں گے، جب کہ ایس ای سی پی نے ۱۳ مقدموں میں نرمی برتتے ہوئے کمپنیوں کی درخواست پر تعمیل کی تاریخ میں اضافہ کر دیا ہے۔ ۱۹ کمپنیوں نے ایل ایس سی پر رپورٹ شدہ اپنی نابدندگی کو چیلنج کیا ہے اور یہ معاملہ ایکسچینج کے ساتھ اٹھا لیا گیا ہے تاکہ اس کا بہتر حل نکالا جا سکے۔

مندرجہ بالا کمپنیاں جن نابدندگیوں کی مرتکب ہوئیں ان میں لگاتار دو سالانہ اجلاس عام کے انعقاد میں ناکامی، بقایا سالانہ اندراجی فیس ادا کرنے میں ناکامی ساتھ ہی ساتھ جرمانہ یا کوئی دوسرے بقایا جات جو سٹاک ایکسچینج کو ادا کرنے تھے یا پھر سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں شمولیت میں ناکامی۔